

زوجہ اول  
زوجہ ثانی

حضرت محمد سرور شاہ صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

خدا تعالیٰ کے فضل سے لجنة اماء اللہ      لوصد سالہ خلافت  
جو بلی کے مبارک موقع پر بچوں کیلئے سیرت صحابیات پر کتب شائع  
کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ کتاب دلچسپ اور  
آسان زبان میں ہو، تا پچھے شوق سے پڑھیں اور ماں میں بھی بچوں کو  
فرضی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کتب سے اپنے اسلاف کے  
کارنا مے سنائیں تاکہ بچوں میں بھی ان جیسا بننے کی لگن پیدا ہو۔  
خدا تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین

# بیگم حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب

## زوجہ اول

پیارے بچو!

جب ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد ﷺ کے زمانے کے حالات پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح مرد، عورتیں اور بچے ہر وقت قربانی کے لئے تیار رہتے تھے۔ تو ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے اور ان کی طرح دین کی ترقی میں حصہ لیتے۔ ہم سب کے دلوں کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے فرمان کے مطابق اس طرح پورا کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور کے لوگ بھی اس مرتبے کو پائیں گے جو اولین دور کے صحابہ کرامؓ کے تھے۔

پندرہ سو سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خصت ہوئے بھی سو سال ہو گئے ہیں۔ جب ہم باغِ احمد کی سیر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے

بہترین خدمات سرانجام دینے اور ہر اس کام میں مدد کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سپرد کیا تھا۔ غرض وہ امام وقت کے بہترین مددگار اور معاون ثابت ہوئے۔ باغِ احمد کے ان گھنے اور سایہ دار درختوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے پانی نے سیراب کیا، یہی وجہ ہے کہ ان کو شیریں پھل لگے، جن سے قوم کو بے حد فائدہ ہوا۔ اسی طرح ہماری تاریخ میں بے شمار ایسی خواتین کا ذکر کر بھی ملتا ہے جن کو خدا تعالیٰ نے خوابوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔

جب ہم کسی بزرگ کے حالات پڑھتے ہیں تو ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ انہوں نے احمدیت کیسے قبول کی؟ اس طرح زندگی کے اُس حصہ سے بات شروع ہوتی ہے جب ابھی ان کا احمدیت سے تعارف نہ تھا۔ ایسے ہی ایک بزرگ حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب بھی تھے۔ جن کی بیگمات کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔

حضرت مولوی صاحب حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام سید محمد حسن شاہ تھا۔ احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے آپ کے والد نے سید محمد سرور شاہ صاحب کی شدید مخالفت کی بلکہ وہ آپ کے خون کے پیاس سے ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے

انہیں بھی حق کو پہچاننے کی توفیق دی اور بالآخر آپ کے والد نے بھی 25 اپریل 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی سعادت پائی۔<sup>(1)</sup> حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش پر حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب اپنے آبائی وطن ہزارہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے قادیان آ کر آباد ہو گئے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خواہش پر ہی اپنی زندگی وقف کی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے آپ کے وقف پر فرمایا:-

”آپ کو اس کام کے لاکن سمجھتا ہوں“<sup>(2)</sup>

آپ عاشق حضرت مسیح موعود علیہ السلام، عاشق سلسلہ احمدیہ تھے۔ آپ مدرسہ احمدیہ کے ہیڈ معلم اور جامعہ احمدیہ کے پرنسپل رہے۔ سلسلہ کے بہت سے علماء اور مبلغین کے استاد رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی استادی کا شرف بھی حاصل رہا۔ حضور علیہ السلام کی غیر حاضری میں بیت مبارک میں آپ نمازیں پڑھاتے۔<sup>(3)</sup>

آپ کا پہلا نکاح سید محمد اشرف صاحب سکنہ داتہ ضلع ہزارہ کی بیٹی سے ہوا۔ سید صاحب احمدیت کے زمانہ سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ تاریخ میں آپ کی بیگم کا نام محفوظ نہیں۔ اس کی ایک وجہ خود حضرت مولوی صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ ”ہمارے خاندان میں خواتین کے نام پکارنے کا رواج نہ تھا۔ اس لئے بسا اوقات ان کا نام یاد

ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجھے اپنی والدہ صاحبہ اور اہلیہ مرحومہ کا نام معلوم نہیں۔“

اپنی بیگم کی بیعت کے بارے میں حضرت مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے وفات سے تین ماہ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا:-

”میں تو چلنے چلتے تھک بھی گیا ہوں۔ اور پھر دریافت فرمایا کہ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ بلند آواز سے کہو کہ میں مسیح موعود (علیہ السلام) ہوں!“

اسی دورانِ خواب میں ہی بیعت بھی کی، بلند آواز کے ارشاد پر میری اہلیہ نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ وہ خود بھی اور میں بھی بیدار ہو گیا۔ چنانچہ اس خواب کی بنابر انہوں نے بذریعہ خط بیعت کر لی۔ بیماری کے آخر میں اہلیہ صاحبہ کی خواہش کے مطابق حضرت مولوی صاحب انہیں ان کی والدہ کے پاس داتہ چھوڑ آئے۔ جہاں دس ماہ کی ایک چھوٹی بچی کو چھوڑ کر وفات پا گئیں۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (۴)

## زوجہ ثانی

### مہتا ب بیگم صاحبہ بیگم حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب

حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب کا دوسرا نکاح مہتا ب بیگم صاحبہ سے ہوا یہ رشتہ بھی الہی تقدیر کا عظیم الشان نمونہ ہے۔

ہجرت کے بعد جب سید محمد سرور شاہ صاحب قادریان آ کر آباد ہوئے تو ایک دفعہ طاعون کے دنوں میں آپ کو دارالمسیح میں ٹھہرایا گیا۔ قدرت اللہ صاحب ڈیوڑھی بان مع اہل و عیال اور آپ ایک ہی حصہ میں رہتے تھے۔ حضرت اُمّ المؤمنین چاہتی تھیں کہ مولوی صاحب کا رشتہ قدرت اللہ خان صاحب کے ہاں ہو جائے۔ چونکہ مولوی صاحب کی رائے تھی کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بغیر پوچھے از خود ہی ارشاد فرمائیں تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ اس لئے یہاں رشتہ نہ ہوا۔

ایک روز عرب صاحب کے لئے رشتہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بعض رشتے نامنظور کئے اور فرمایا ایسا رشتہ ہونا چاہیے جو ظاہری شکل و شبہت میں بھی اچھا ہو۔ مثلاً میاں جیون بٹ صاحب امرتسری کے ہاں۔ مولوی صاحب میاں جیون بٹ صاحب سے واقف نہ تھے بلکہ ان کو

دیکھا ہوا بھی نہ تھا۔ رمضان میں ڈاکٹر عباد اللہ صاحب امرتسری آکر قادیان میں اعتکاف بیٹھے۔ مولوی صاحب کے دریافت کرنے پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عید کے لئے ٹھہر نے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے میاں جیون بٹ صاحب کا پیغام حضرت مولوی نور الدین صاحب کو پہنچانا ہے، اس لئے ٹھہرنا پڑے گا۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ میں نے دوسال سے لڑکی کے رشتہ کے لئے لکھا ہوا ہے، اس کا خیال رکھیں۔

سید محمد سرور شاہ صاحب نے ہستے ہوئے کہا کہ آپ دوسروں کا پیغام تو پہنچاتے ہیں۔ لیکن میرا پیغام کسی کو بھی نہیں دیتے۔ میری شادی کا کسی جگہ انتظام کیا جائے۔ مولوی صاحب کے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آپ کی شادی کے لئے حضرت مولوی صاحب سے ذکر کیا جائے گا۔

ماسٹر عبد الرحمن صاحب بی۔ اے (سابق مہر سنگھ) ان دنوں حضرت مولوی صاحب کے پاس رہتے تھے اور طالب علم تھے۔ انہوں نے مولوی سرور شاہ صاحب کو مبارک بادی اور دریافت کرنے پر بتایا کہ حضرت مولوی صاحب نے میاں جیون صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ کی لڑکی کے لئے مولوی سرور شاہ صاحب کا رشتہ پیش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہ ہو، تو مجھ سے بالکل نا امید ہو جائیں۔ میں پھر آپ کی لڑکی کے لئے کوئی رشتہ تجویز نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہو،

## تو جمعرات کے روز آجائیں۔

بابا جیون بٹ صاحب، میاں غلام رسول حجام سکنہ امترس (صحابی) کے ہمراہ جمعرات کو قادیان آگئے۔ میاں غلام رسول بہت مخلص تھے۔ ان کی بابا جی نے یتیمی کی حالت میں پرورش کی تھی۔ ظہر کی نماز کے وقت حضرت مولوی صاحب نے حضور علیہ السلام سے مشورہ مانگا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس رشتہ کی اجازت عنایت کی۔ چنانچہ حضرت مولوی صاحب نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں نکاح پڑھا اور بغیر پوچھے دوسرا و پیہ مہر مقرر کیا۔ حضور علیہ السلام بھی دعا میں شریک ہوئے۔

نکاح کے بعد حضرت سید سرور شاہ صاحب نے دریافت کیا کہ رختانہ پر کیا لانا چاہیے۔ بابا جی نے کہا ”ہم سب کچھ دیں گے! آپ کچھ بھی نہ لائیں اور پندرہ دن میں رختانہ کر دیں گے!“ یہ وہ زمانہ تھا جب اس پاک بستی کے رہنے والے ایک ہی کنبہ کی طرح رہتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس رختانہ پر خرچ کرنے کے لئے ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ حضرت حکیم فضل الدین صاحب جو مہمان خانہ کے چوبارہ میں رہائش رکھتے تھے، نیچے تشریف لائے۔ اور آپ کو دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ رختانہ کے لئے جارہے ہیں اور دس روپے دیئے (اُس وقت کے دس روپے آج کے ہزاروں کے برابر ہیں)

حضرت مولانا نور الدین صاحب سے آپ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ بارات میں یہاں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں۔ آج تیرہ دوست مجھ سے مل کر امر تسری گئے ہیں اور میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ امر تسری ٹیشن پر ٹھہریں اور آپ کی بارات میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ اسٹیشن پر موجود تھے۔ آپ ان کے ہمراہ ڈاکٹر عباد اللہ صاحب کے مکان پر گئے۔ کچھ اور دوست بھی شامل ہو گئے اور یہ بارات جیون بٹ صاحب کے ہاں پہنچی۔

اس طرح حضرت مولوی سرور شاہ صاحب، حضرت مہتاب بیگم صاحبہ کو بیس سال کی عمر میں بیاہ کر قادیان لائے۔

حضرت مہتاب بیگم صاحبہ کا بیان ہے کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب کے رشتہ طے کرنے پر ہمارے تمام رشتہ دار مخالف ہو گئے تھے۔ اسی لئے کسی نے بھی شادی میں شرکت نہ کی۔

رہائش کے لئے مولوی صاحب نے سکھوں کی گلی میں ایک مکان لیا۔ جس میں دو کمرے اور کنال بھر کا صحن تھا اس کا کراہی چھاؤ نے تھا پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کو مدرسہ احمدیہ کا سپریٹڈ نٹ بنایا گیا تو آپ مدرسہ احمدیہ والے مکان میں آگئے۔ اس وقت آپ کی تخواہ پندرہ روپے تھی آپ قادیان کی اس پاک لبستی میں آنے سے پہلے، دوسروپے کی تخواہ چھوڑ کر

آئے تھے، آپ اپنے اخلاص کی وجہ سے بھی تنگی محسوس نہ کرتے تھے۔  
آپ کے نکاح کے وقت ڈائری حضرت مسیح موعود علیہ السلام  
16 مارچ 1903ء میں لکھا ہے:-

”ایک نکاح امرتسر میں ایک احمدی بھائی کی بیٹی کھاتھ پڑھایا  
گیا۔ جس پر حکیم نور الدین صاحب نے خطبہ نکاح پڑھایا،“  
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-  
”اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، متقیٰ کا ہر  
ایک عمل قبول ہوتا ہے، متقیٰ ہر ایک تنگی سے بچایا جاتا ہے۔ متقیٰ کو ایسی جگہ  
سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو پتہ نہ ہو۔“ (5)

آپ کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارا بہت خیال رکھتے۔  
جب بھی کوئی پھل آتا تو ہمارے گھر بھی بھیج دیا کرتے۔ بلکہ کئی بار کپڑے  
بھی بھجواتے۔ 1906ء میں ہماری پہلی بیٹی حلیمه بیگم کی پیدائش اس گھر میں  
ہوئی جو سکھوں کا محلہ تھا، پنج تین ماہ کی تھی۔ طاعون کی وجہ سے ان کے  
ہمسایہ میں اموات ہونے لگیں اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے  
از خود ہمیں بلوایا اور دار مسیح کے نچلے حصہ کا مغربی کمرہ ہمیں دے دیا۔  
ہم دو ماہ وہاں ٹھہرے۔ ان ایام میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب مع  
اہل و عیال اور مشرقي ڈیوڑھی کے دربان اکبرخان صاحب اور مغربی

ڈیوڑھی کے دربان قدرت اللہ خان بھی بمعہ اہل و عیال دار مسح میں مقیم تھے۔

ایک بہت بڑی سعادت جو مہتاب بیگم صاحبہ کو نصیب ہوئی۔ اُس کا ذکر کریوں فرماتی ہیں۔

”میری صحت بہت اچھی تھی، حضرت سیدہ اُم ناصر صاحبہ کی گود میں ان کا پہلا بچہ نصیر احمد مرحوم تھا۔ ان کی طبیعت خراب تھی۔ حضرت مسح موعود علیہ السلام نے مجھے فرمایا آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ نصیر احمد کو دودھ پلایا کریں۔ چنانچہ ایک ماہ میں نے دودھ پلایا۔“  
ایک اور واقعہ بیان فرماتی ہیں:-

”ایک مرتبہ حضرت اقدس علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لے جانے لگے تو حضرت اماں جان نے حضور علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب کی بیوی کو بھی ساتھ لے چلیں۔ فرمایا ہاں ان کو بھی لے چلو۔ سیالکوٹ آٹھ دن کے قیام میں حضور علیہ السلام کھانے پر سب کے متعلق دریافت فرماتے کہ سب کو کھانا مل گیا؟ میرے متعلق آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ میں سبز چائے پیتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے میرے لئے دودھ، سبز چائے اور انگیٹھی کا انتظام کروادیا۔ تاکہ مجھے چائے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ تھا آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی کا اعلیٰ ترین معیار اپنے

غلاموں سے!“<sup>(6)</sup>

آپ خدا کے فضل سے موصیہ تھیں حسب توفیق مالی تحریکات میں حصہ لیتی رہیں۔ اپنے زیور اور حق مہر پر چندہ وصیت ادا کیا۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح الثاني کی طرف سے بیت برلن کی تحریک آئی تو آپ نے تمیں روپے ادا کئے۔ اس چندہ کی تحریک کے متعلق حضور فرماتے ہیں:-

”کہ دوسروں کی بیت تو اس لئے تعمیر ہوتی ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ اس میں نماز پڑھیں۔ لیکن ہماری بیت کی تحریکوں کی وجہ سے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ کیونکہ اس بیت کے لئے میری طرف سے پابندی تھی کہ صرف احمدی عورتیں چندہ دے سکتی ہیں۔ اس لئے گیارہ خواتین نے صرف اس لئے احمدیت قبول کر لی کہ وہ چندہ میں شرکت کر سکیں اور ثواب سے محروم نہ رہیں یہ پہلا پھل ہے جو ہمیں ملا۔“

1925ء میں ایک لاکھ روپیہ چندہ خاص کی تحریک ہوئی۔ اس میں حضرت مولوی صاحب نے ایک ماہ کی تاخواہ دی اور حضرت مہتاب بیگم نے

چھروپے دیئے۔<sup>(7)</sup>

1930ء میں جب بجٹہ کی ابتدائی ممبرات کی تعداد 49 ہوئی تو اس میں آپ بھی شامل تھیں۔<sup>(8)</sup>

مرد کی زندگی میں عورت کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ذہنی ہم آہنگی ہو

تو گھر جنت بن جاتے ہیں۔ مکرم مولوی محمد احمد صاحب ثاقب فاضل ربوہ بتاتے ہیں:-

ہمارے حضرت مولوی صاحب کے ساتھ تعلقات کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کے سُسر حضرت بابا جیون بٹ صاحب امترس کے رہنے والے تھے۔ میری والدہ صاحبہ بھی وہاں ان کے گھر کے قریب ہی رہتی تھیں۔ حضرت بابا جی ان کو اپنی بیٹی خیال کرنے لگے۔ اس طرح میری والدہ اور اہلیہ حضرت مولوی صاحب گویا بہنیں بن گئیں۔ اور میں ان کو خالہ کہتا تھا اور اکثر ویشتر ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔

آپ حضرت سید سرور شاہ صاحب کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آپ جب گھر میں ہوتے تو کبھی ادھر ادھرنہ جاتی تھیں۔ نہ ان کے مطالعہ میں بچوں کو جانے دیتیں۔ آپ چونکہ علمی مطالعہ بہت کرتے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے۔ بادام کا حریرہ استعمال کرتے یعنی بادام، الاچھی پیس کر اور گرم کھی میں دودھ ملا کر عصر کے بعد پابندی سے پیتے اور خالہ جان اس کو باقاعدگی سے بنایا کر دیتیں۔ آپ جب بازار سودا سلف خریدنے جاتے تو آپ کی طبیعت سے واقف ہونے کی وجہ سے خالہ جان اپنے نواسے کمال یوسف کو یا بڑے بیٹے سید ناصر احمد کے لڑکے کو پیچھے بکھج دیتی تھیں کہ جب سودا خرید لیں تو دھیان رکھنا کہیں آپ بٹا جیب

میں ڈالنے کی بجائے رستہ میں ہی گرانہ دیں یادکان پر ہی چھوڑ نہ آئیں۔  
 محترمہ خالہ صاحبہ کی یہ احتیاط بے جانہ ہوتی تھی کیونکہ بسا اوقات  
 ایسا ہو جاتا تھا کہ بٹواہ جیب میں ڈالنے کی بجائے گریبان میں ڈال  
 دیتے اور وہ نیچے گر جاتا یادکان پر ہی چھوڑ آتے تو یہ بچے وہاں سے اٹھا  
 کر لے آتے۔

سید سرور شاہ صاحب نہایت متول مزاج تھے، تنخواہ بہت کم تھی،  
 گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ مہتاب بیگم کو اللہ تعالیٰ نے تین  
 بیٹیاں اور دو بیٹوں سے نوازا۔ آپ کے بڑے بیٹے ناصر احمد صاحب ایک  
 دفتر میں برائے نام کام کرتے تھے۔ وہ اور ان کی بیوی نیچے آپ کے  
 ذمہ تھے۔ چھوٹے بیٹے سید مبارک احمد بھی کوئی کام نہ کرتے تھے۔ اُن کی  
 فیملی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ بڑی بیٹی اہلیہ (سیدنا محمد سعید صاحب) فوت  
 ہو چکی تھیں۔

ان کے دونوں بیٹے کمال یوسف اور جمال یوسف بھی آپ کے  
 پاس تھے۔ چھوٹی بیٹی سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی۔ محض  
 اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کثیر اخراجات کا انتظام ہو جاتا تھا اور اس  
 معاملہ میں محترمہ خالہ جان کے حسنِ مذہب کا بھی بہت دخل تھا۔ کیونکہ آپ کا  
 نظم و ضبط گھر میں بڑا موثر اور نگرانی بڑی کڑی ہوتی تھی۔ جس کی وجہ سے

گھر کا کوئی فرد ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا تھا۔ (9)

آپ کے نواسے کمال یوسف صاحب مرتبی سلسلہ لکھتے ہیں:-

”1933ء سے 1947ء تک کا وقت اپنی والدہ کی وفات کے بعد آپ کے زیر سایہ گزر را۔ میں آپ کو امماں جی کہتا..... حضرت مولوی صاحب کے خدمات سلسلہ میں ہمہ وقت مصروف العمل رہنے کی وجہ سے گھر کے متعلق ہر کام آپ سکھڑا اور معتدل انداز اور سلیقہ سے چلاتی تھیں..... گھر کے دس بارہ افراد کے علاوہ دو چار کشمیری طلباء یتیم بچے بھیاں، جزو قی ملازم، ان کی دلکش بھال اور عیال داری آپ خود بڑے ذوق سے اور ایک ڈھنگ سے کرتی چلی آئیں۔

قادیانی عالمی مرکز احمدیت ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں مہمانوں کا آنا جانا اور پڑوسیوں کا آنا مزید گھر کی رونق بڑھاتا۔ تعلیم و اجنبی تھی، اردو لکھ لیتی تھیں۔ سلسلہ کے لٹریچر کے علاوہ حضرت قاضی اکمل صاحب کا گھر آپ کے گھر کے نزدیک تھا۔ ان کے گھر ہندوستان بھر سے آنے والے رسائل آپ کے مطالعہ میں رہتے۔

اماں جی گھر سے باہر کم نکلتیں، آخر عمر تک باپر دہ گھر سے جاتیں، اگر جانا ہوتا تو ٹلوپی والا بر قعہ پہن کر جاتیں صحت ماشاء اللہ آخر وقت تک ایسی رہی جیسے بڑھا پا انتظار میں تھک گیا ہو، بڑی عمر میں سر کے بالوں میں

چاندی اترنے کی بجائے سیاہی لوٹ آئی۔

83 سال عمر پائی لیکن حافظہ ہمیشہ بہت اچھا رہا۔ اصحاب احمد سیرت سرور میں بہت سی روایات آپ کے حوالہ سے ملتی ہیں آپ بے حد دعا گو اور ملنسار خاتون تھیں۔ وفات کے وقت اپنے بیٹے سید مبارک احمد سرور کے پاس ربوہ میں رہائش پذیر تھیں۔ ستمبر 1963ء میں آپ نے وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب نے پڑھائی، موصیہ ہونے کی وجہ سے بہشتی مقبرہ میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔

ابلیہ الاول سے حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب کی ایک بیٹی فاطمہ بیگم تھیں، جو ابھی صرف تین ماہ کی تھی۔ جب ان کی امی بہت بیمار ہوئیں اور اس بیماری سے فوت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے وقت فاطمہ نے دس سال تک اپنے نھیاں مقامِ دانہ میں پرورش پائی۔ پھر ان کے ابا جان حضرت سرور سید محمد شاہ صاحب اپنے پاس قادیان لے آئے۔

جب آپ کا رشتہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے صاحبزادے عبدالحی صاحب سے طے پایا تو آپ کی امی مہتاب بیگم نے بہت محبت اور فراخدلی سے آپ کا جہیز تیار کیا۔ اور حضور نے بیٹے کے لئے نکاح کے بعد مکان بنوانا شروع کیا۔

21 جون 1913 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے خطبہ نکاح پڑھا اور دو ہزار روپے حق مہر کا اعلان ہوا..... مکان تیار ہو جانے کے بعد رخصنا نہ ہو گیا۔ حضور نے اپنے بیٹے اور بہو کو دو قرآن مجید، دو صحیح بخاری اور ان کے لئے رحل اور حزب المقبول، فتح الغیب اور برائین احمدیہ، ایک الماری، تہجد کے لئے لاٹھین اور لوٹادیئے۔ (10) لیکن ابھی صرف دو سال ہی گزرے تھے کہ صاحبزادہ عبدالجی صاحب صرف بیس دن بیمار رہ کر 11 نومبر 1915ء میں وفات پا گئے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

کچھ عرصہ کے بعد فاطمہ بیگم کی شادی سید محمود اللہ شاہ صاحب ابن حضرت ڈاکٹر عبدالستار صاحب کے ساتھ ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالستار صاحب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کے نانا ہیں۔

آپ کی نانی اور نانا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ عشق کرتے تھے۔ جس کا اندازہ آپ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی اس تحریر سے لگاسکتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں:-

”حضرت سیدہ اُم طاہر کی والدہ محترمہ بہت نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ کئی بار رُپ سے میرے پاس یہ خواہش طاہر کی کہ میری بچیوں کی شادی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں ہو، یا پھر حضرت امام جان

کے بھائیوں کے اڑکوں سے ہو۔<sup>(11)</sup>

1907ء میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش پر آپ علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے مبارک احمد کا نکاح ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی بیٹی مریم بیگم سے ہوا۔ گومبارک احمد کی زندگی نے وفات کی مگر ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ کے اخلاص کو خدا تعالیٰ نے قبول فرمایا اور حضرت مریم بیگم صاحبہ حضرت مصلح موعود کے عقد میں آئیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوبارہ بہوبنیں۔ نیز خدا تعالیٰ کے فضل نے انہیں ایک خلیفہ کی ماں بنایا یعنی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع آپ کے اکلوتے فرزند تھے۔<sup>(12)</sup>

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سادات میں نکاح کرنے کو خدا کا فضل سمجھا ہے۔ اور اپنی تصانیف میں اس کا ذکر کیا ہے۔

حضرت مولوی صاحب نے سلسلہ کی ترقی کے لئے دعاؤں کے ساتھ اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کیں کیں اور بالخصوص اپنی بیٹی فاطمہ بیگم جو خوش قسمتی سے حضرت سیدہ امّ طاہر کی بھا بھی تھیں۔ شادی کے بعد ان کا نام محمودہ بیگم رکھا گیا۔ ان کو خدا تعالیٰ نے دو بیٹے دیئے۔

1 سید مسعود مبارک شاہ صاحب

2 سید داؤد مظفر شاہ صاحب

ابھی چھوٹے ہی تھے کہ 25 برس کی عمر میں محمودہ بیگم صاحبہ وفات پا گئیں۔ آپ موصیہ تھیں، تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوئی۔

حضرت سیدہ بیگم صاحب اہلیہ ڈاکٹر عبدالستار صاحب نے روایا میں حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام کی بیعت کی طرف را ہنمائی ہونے پر احمدیت قبول کی۔ آپ بچپن سے ہی ’پارسا‘ کے لقب سے مشہور تھیں۔ دن رات ان تھک دعائیں کرنے والی تہجد گزار خاتون تھیں۔ ان کی تحریک سے خواتین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے سلسلہ وعظ و تلقین کا جاری ہوا۔

ایک دفعہ ان کے دانت میں شدید درد تھی۔ دواوں سے فائدہ نہ ہوا۔ حضرت اُم المؤمنین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ حضور نے دارالمسیح میں بلوا کران کی موجودگی میں دونوں فل ادا کئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا کہ اس دانت کے نیچے سے قدرے دھویں والا شعلہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے چنانچہ تھوڑی دیر میں آرام آگیا۔ اور بھی بہت قبولیت دعا کی شہادتیں آپ سے مردوی ہیں۔

حضرت سیدہ بیگم صاحب کے اصرار پر جب ڈاکٹر صاحب رخصت لے کر بمع اہل و عیال قادیان آئے۔ تو حضور علیہ السلام کو مکمال خوشی ہوئی۔ اور اپنے قریب مکان میں جگہ دی۔ آپ علیہ السلام ان کی بہت عزت

کرتے تھے اور خاص محبت و شفقت اور خاطرتواضع سے پیش آتے تھے۔  
 حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کے متعلق انہیں فرمایا کہ یہ آپ کا گھر  
 ہے۔ آپ کو جو ضرورت ہو بغیر تکلف مجھے اطلاع دیں اور تعلقات کا ذکر  
 کیا۔ ایک یہ کہ آپ ہمارے مرید ہیں دوسرے آپ سادات ہیں، تیسرا  
 ایک اور تعلق جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ جو بعد  
 میں سیدہ اُم طاہر صاحبہ کی ولادت اور پھر قرابت کے بعد ظاہر ہو گیا۔ آپ  
 تقویٰ اور طہارت کا بہترین اسوہ تھیں۔

آپ سے قرابت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھا۔ وہ  
 یوں کے آپ کی نواسی حضرت سیدہ امته الحکیم صاحبہ بنت حضرت مصلح موعود  
 اُم طاہر کی شادی آپ کے پوتے سید داؤد مظفر شاہ صاحب ابن  
 سید محمود اللہ شاہ صاحب و سید محمودہ بیگم بنت حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب  
 سے ہوئی دوسری نواسی صاحبزادی امته الباسط صاحبہ (جن کو ہم سب بی بی باچھی  
 کے نام سے جانتے ہیں) کی شادی حضرت میر داؤد احمد صاحب ابن  
 حضرت میر محمد اسحاق احمد صاحب سے ہوئی۔ اس طرح آپ کی وہ تمنا بھی  
 پوری ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت امام جان کے بھائیوں  
 کے گھروں میں رشتے ہوں۔

ان رشتتوں سے خواتین مبارکہ کا تسلسل بھی اگلی نسل میں بہت ہی

حسین انداز میں منتقل ہوا۔ اس کے نتیجے میں اب ہم سب نے خدا تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھا کہ اب ہمارے موجودہ امام حضرت صاحبزادہ مرزا مسرو را احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کے پوتے ہیں اور آپ کی اہلیہ حضرت مصلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی کی نواسی صاحبزادی امتنہ السبوح بیگم صاحبہ بنت سید داؤد منظفر شاہ صاحب ہیں۔

اس طرح ہم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سادات سے تیرے تعلق پر خاموشی کا جواب وقت نے بار بار کس خوبصورت انداز میں دیا۔ اب ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام کے عظیم مشن کو لے کر زمین کے کناروں تک جاری ہے ہیں اور ہم گھر بیٹھے اس الہام کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں کہ ”میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا“،

خدا کرے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کی خلافت کی روح کی گہرائیوں سے قدر کرنے والے ہوں تاکہ ہم اور ہماری نسلیں امام وقت کی باتوں پر عمل کر کے حضرت اقدس علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنیں۔ آمین

## حوالہ جات

1	سیرۃ صحابہ جلد سوم حصہ اول (صفحہ 6)
2	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ اول (صفحہ 114)
3	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ دوم (صفحہ 173)
4	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ اول (صفحہ 71-72)
5	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ دوم (صفحہ 21-24)
6	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ دوم (صفحہ 32)
7	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ دوم (صفحہ 35)
8	تاریخ بخاری جلد اول (صفحہ 76)
9	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ سوم (صفحہ 138-140)
10	اصحاب احمد جلد پنجم حصہ دوم (صفحہ 37)
11	تابعین اصحاب احمد سیرت امّ طاہر (صفحہ 5)
12	تابعین اصحاب احمد سیرت امّ طاہر (صفحہ 14 تا 18)

**بیگمات حضرت سید محمد سروشہ صاحب**  
**(Begamat Hadhrat Sayyad Muhammad**  
**Sarwar Shah Sahib )**  
**Urdu**

Published in UK in 2008

© Islam International Publications Ltd.

Published by:

Islam International Publications Ltd.  
'Islamabad' Sheephatch Lane,  
Tilford, Surrey GU10 2AQ,  
United Kingdom.

Printed in U.K. at:

Raqueem Press  
Sheephatch Lane  
Tilford, Surrey  
GU10 2AQ

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior written permission from the Publisher.